

بغیر اجازت گاڑیوں کے پرزاجات نکالنے سے اجتناب کیجئے !

استعمال شدہ گاڑیوں سے پرزے نکالنے یا گاڑیوں کو ٹکڑے کرنے (پرزہ نکالنے) والے کو گاڑیوں کی باز گردانی کے قانون کے مطابق گاڑیوں کو ٹکڑے کرنے والی کمپنی کی حیثیت سے ہر پریفیکچر یا اس شہر کی، جہاں متعلقہ دفتر موجود ہے، اجازت لینا ضروری ہے۔

گاڑیوں کی باز گردانی کے قانون کے مطابق اجازت لیے بغیر استعمال شدہ گاڑیوں کے، یا ٹکڑے شدہ گاڑیوں (گاڑی کے ٹکڑے) کے لین دین کرنے، بغیر اجازت کے کاروبار کی سزا (۱ سال سے کم مدت کی قید با مشقت یا ۵ لاکھ یں یا اس سے کم جرمانہ) ہے۔


✳ اب تک کئی کمپنیوں کو اجازت کے بغیر کاروبار کرنے، یعنی اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پ گرفتاری وغیرہ کے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔

استعمال شدہ گاڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر کاروباری کمپنی کو درج ذیل فرائض انجام دینے ہیں۔

- کاروباری کمپنی یا فریئن واپس لینے والی کمپنی سے استعمال شدہ گاڑیاں لینا
- استعمال شدہ گاڑیوں کا دوسرے وسائل کی حیثیت سے استعمال * (بیٹری، ٹائر، استعمال شدہ تیل وغیرہ اکٹھا کرنا اور پرزوں کا دوسرے وسائل کی حیثیت سے استعمال)

✳ دوسرے وسائل کی حیثیت سے استعمال : نکالے گئے پرزوں کو دوبارہ استعمال کرنے کی صورت میں لانا، جلنے والے مادہ کو جلاتے وقت حرارت کا استعمال کرنے کے لیے تیار کرنا۔

- ایئر بیگ وغیرہ اکٹھا کرنا اور انہیں گاڑیاں تیار کردہ کمپنیوں وغیرہ کو دے دینا وغیرہ



گاڑیوں کے پرزوں کی برآمد کرنے پر خیال رکھیے !

گاڑیوں کی باز گردانی کے قانون میں استعمال شدہ گاڑیوں یا ٹکڑے ٹکڑے شدہ گاڑیوں (گاڑی کے ٹکڑے) * وغیرہ کو ردی ختم کرنے کے قانون میں «ردی» کی حیثیت دی جاتی ہے۔

* گاڑیوں کی باز گردانی کے قانون کے مطابق «ٹکڑے ٹکڑے شدہ گاڑیوں» سے مراد استعمال شدہ گاڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کام کے مادہ اور پرزے نکالنے کے بعد باقی رہ جانے والے حصے (گاڑی کے ٹکڑے) سے ہے۔

گاڑیوں کو ٹکڑے کرنے والی کمپنی کو، پہلے صفحے پر درج شدہ فرائض انجام دیے بغیر گاڑیوں کے پرزوں کی برآمد کرنے کی کوشش کرنے سے گاڑیوں کی باز گردانی کے قانون اور ردی ختم کرنے کے قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اور اسے متعلقہ انتظامیہ سے انتظامی ہدایات جاری کیے جائیں گے۔

< غیر قانونی کارروائی کی مثالیں >

- ایسے ایئر بیگ وغیرہ، جس کا نہ چلنے کا بند و بست نہیں کیا گیا ہو، نکالنے سے پہلے کی ہاف کٹ گاڑیوں کی برآمد
- ایسے ایئر بیگ وغیرہ، جس کا نہ چلنے کا بند و بست نہیں کیا گیا ہو، نکالنے سے پہلے کی اسٹیئرنگ وہیل کی برآمد
- لین دین کا رپورٹ نہ دینے والی استعمال شدہ گاڑی کو ٹکڑے کرنا، یا ٹکڑے شدہ گاڑی کے لین دین کا رپورٹ نہ دینا وغیرہ

اور «ردی» کی برآمد کرنے پر وزیر ماحولیات کی تصدیق کی ضرورت ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ردی ختم کرنے کے قانون کے مطابق سزا (۵ سال سے کم مدت کی قید یا مشقت یا ایک کروڑ پین یا اس سے کم جرمانہ) ملتی ہے۔



گاڑیوں کی باز گردانی کے قانون اور ردی ختم کرنے کے قانون پر عمل کیجیے، اور خیال رکھیے کہ گاڑیوں کے پرزوں کی ناجائز برآمد نہ کی جائے۔